


# کیا آپ اپنی مرضی کے خلاف کام کر رہے ہیں؟



جبری مزدوری اور انسانی برده فروشی کی علامات میں شامل ہیں



کارکنان قانونی عمر سے  
کم کے ہوں



آپ نے ملازمت پانے کے لیے  
ادائیگی کی ہو، یا کام قرض یا  
تنخواہ میں کٹوتیوں کے دباؤ  
والا ہو



دھمکیاں یا بدسلوکی آپ کو  
چھوڑنے سے باز رکھتی ہے،  
یا آپ کو وعدے کے مطابق کام  
نہیں ملتا



قیمتی اشیاء، بشمول  
پاسپورٹس اور ورک پرمیشن،  
رکھ لیے جاتے ہیں

اپنے ساتھی کارکن، سپروائزر، یا کارکنان کے مجاز نمائندہ سے بات کریں

کسی بھی وقت، کہیں بھی والمارٹ (Walmart) سے رابطہ کریں—  
ای میل: [ethics@wal-mart.com](mailto:ethics@wal-mart.com)  
مالحظہ کریں: [walmartethics.com](http://walmartethics.com)  
کال کریں: 000-800-040-1503


موذون سرکاری اہلکاران سے رابطہ کریں

- 1
- 2
- 3

اگر ایسا ہے تو،  
آواز اٹھائیں۔

اگر آپ کو ان میں سے کوئی  
صورتحال نظر آتی ہے یا اس کا  
تجربہ ہوتا ہے تو اس کی اطلاع دیں

کیا آپ زیادہ کام کرتے  
ہیں یا آپ کو منظور شدہ  
حد سے کم ادائیگی کی  
جاتی ہے؟



غیرقانونی ادائیگی اور حد سے زیادہ کام کی علامات میں شامل ہیں



آپ کو پابندی سے ادائیگی  
نہیں کی جاتی



آپ کو قانونی تنخواہ، مراعات، یا  
اوورٹائم پریمیم سے کم ملتا ہے



آپ کو چھٹی نہیں ملتی یا آپ  
اس سے زیادہ کام کرتے ہیں  
جتنے کی قانون اجازت دیتا ہے



آپ ملازمت یا تنخواہ کی  
شرط کو نہیں سمجھتے ہیں

اپنے ساتھی کارکن، سپروائزر، یا کارکنان کے مجاز نمائندہ سے بات کریں


کسی بھی وقت، کہیں بھی والمارٹ (Walmart) سے رابطہ کریں—  
ای میل: ethics@wal-mart.com  
مالحظہ کریں: walmartethics.com  
کال کریں: 000-800-040-1503

موذون سرکاری ابلکاران سے رابطہ کریں

- 1
- 2
- 3

اگر ایسا ہے تو،  
آواز اٹھائیں۔

اگر آپ کو ان میں سے کوئی  
صورتحال نظر آتی ہے یا اس کا  
تجربہ ہوتا ہے تو اس کی اطلاع دیں



کیا آپ کو دھمکی دی  
جاتی ہے یا آپ کے  
خلاف امتیاز برتا  
جاتا ہے؟

مزدوری سے متعلق نامناسب اعمال کی علامات میں شامل ہیں



آپ کا آجر ہراسان کرتا ہو،  
بدسلوکی کرتا ہو، یا جسمانی سزا  
دیتا ہو



آپ کے لیے دوسروں کے  
ساتھ وابستہ ہونے یا وابستہ  
نہ ہونے کے اپنے حق کا  
استعمال منوع ہو



آپ کا آجر ملازمت سے متعلق  
فیصلے ان عوامل کی بنیاد پر کرتا  
ہے جو کام سے متعلق نہیں ہیں

اپنے ساتھی کارکن، سپروائزر، یا کارکنان کے مجاز نمائندہ سے بات کریں

کسی بھی وقت، کہیں بھی والمارٹ (Walmart) سے رابطہ کریں—  
ای میل: ethics@wal-mart.com  
مالحظہ کریں: walmartethics.com  
کال کریں: 000-800-040-1503

موذون سرکاری اہلکاران سے رابطہ کریں

- 1
- 2
- 3

اگر ایسا ہے تو،  
آواز اٹھائیں۔

اگر آپ کو ان میں سے کوئی  
صورتحال نظر آتی ہے یا اس کا  
تجربہ ہوتا ہے تو اس کی اطلاع دیں

# کیا آپ کام کے دوران خود کو غیر محفوظ محسوس کرتے ہیں؟



غیر محفوظ کام کی جگہ کی علامات میں شامل ہیں



آپ کو مناسب تربیت کے  
 بغیر مشینری چلانے یا  
 میٹریلز کو استعمال کرنے  
 کو کہا جاتا ہے



عمارت، ساز و سامان اور  
 تنصیبات کی دیکھ بھال نہیں  
 کی جاتی



نکاسی، دروازے اور باہر  
 نکلنے کے راستے نشان زد  
 نہیں ہیں یا استعمال کے لیے  
 دستیاب نہیں ہیں



آپ کو ذاتی تحفظاتی  
 ساز و سامان نہیں دیا جاتا ہے

اپنے ساتھی کارکن، سپروائزر، یا کارکنان کے مجاز نمائندہ سے بات کریں

کسی بھی وقت، کہیں بھی والمارٹ (Walmart) سے رابطہ کریں—  
 ای میل: [ethics@wal-mart.com](mailto:ethics@wal-mart.com)  
 ملاحظہ کریں: [walmartethics.com](http://walmartethics.com)  
 کال کریں: 000-800-040-1503



موزوں سرکاری اہلکاران سے رابطہ کریں

- 1
- 2
- 3

اگر ایسا ہے تو،  
 آواز اٹھائیں۔

اگر آپ کو ان میں سے کوئی  
 صورتحال نظر آتی ہے یا اس کا  
 تجربہ ہوتا ہے تو اس کی اطلاع دیں

# کیا آپ کو اپنی کام کی جگہ پر درج ذیل میں سے کسی کا تجربہ ہوا ہے؟



کیا آپ زیادہ کام کرتے ہیں یا آپ کو منظور شدہ حد سے کم ادائیگی کی جاتی ہے؟

کیا آپ اپنی مرضی کے خلاف کام کر رہے ہیں؟



کیا آپ کام کے دوران خود کو غیرمحفوظ محسوس کرتے ہیں؟

کیا آپ کو دھمکی دی جاتی ہے یا آپ کے خلاف امتیاز برتا جاتا ہے؟

اپنے ساتھی کارکن، سپروائزر، یا کارکنان کے مجاز نمائندہ سے بات کریں

کسی بھی وقت، کہیں بھی والمارٹ (Walmart) سے رابطہ کریں۔

ای میل: [ethics@wal-mart.com](mailto:ethics@wal-mart.com)

ملاحظہ کریں: [walmartethics.com](http://walmartethics.com)

کال کریں: (963-8442) 800-WM-ETHIC امریکہ اور کینیڈا سے

موذون سرکاری ابلکاران سے رابطہ کریں

- 1
- 2
- 3

## اگر ایسا ہے تو، آواز اٹھائیں۔

اگر آپ کو ان میں سے کوئی صورتحال نظر آتی ہے یا اس کا تجربہ ہوتا ہے تو اس کی اطلاع دیں